



## سوال

خطبے کے دوران سامعین کا آواز بلند تکبیر و تسبیح کہنا

## جواب

سوال 1: جمعہ کی نماز میں خطبے کے دوران ایسی بات کہہ دے جس پر، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا جائے تو کیا جائز ہے۔ کیونکہ ایک حدیث کا مضموم ہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران دو آدمی بات کر رہے ہوں تو تیسرا اگر

جواب: شیخ صالح المنجد سے اس بارے جب سوال ہوا تو انہوں نے یوں جواب دیا:

جمعہ کے روز دوران خطبہ خاموش رہنے اور کلام کرنے کا حکم

سوال: میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے گیا، لیکن جب بھی کوئی نماز مسجد میں آیا اس نے سلام کیا اور نمازیوں نے سلام کا جواب دیا، بلکہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اس نے بھی سلام کا جواب دیا، اور جب خطبہ شروع ہوا تو بعد میں آنے والے نمازی نے سلام کیا اور خطیب نے آہستہ سے اس کا جواب دیا، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟

الحمد للہ:

دوران خطبہ آنے والے شخص کو خاموش رہا چاہیے، اور کسی دوسرے کے ساتھ کلام کرنا جائز نہیں، حتیٰ کہ کسی شخص کو خاموش کرانے کے لیے بھی کلام نہیں کی جاسکتی، جو شخص بھی ایسا کرتا ہے، اس نے لغو اور فضول کام کیا، اور جس شخص نے فضول اور لغو کام کیا اس کا جمعہ ہی نہیں ہوا۔

الہویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"جمعہ کے روز خطیب کے خطبہ کے دوران اگر آپ نے اپنے ساتھی خاموش ہونے کا کہا تو آپ نے لغو اور فضول کام کیا"

صحیح بخاری حدیث نمبر (892) صحیح مسلم حدیث نمبر (851)۔

اور اسی طرح شرعی سوال کا جواب دینا بھی ممنوع ہے، چہ جائیکہ کسی دنیاوی امور میں کلام کی جائے۔

الہویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

"نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو خطاب کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت کی اور میرے پہلو میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے انہیں کہا:

اسے ابی ذریہ تو بتاؤ کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟



تو ابی رضی اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیا، میں نے پھر ان سے دریافت کیا تو انہوں نے مجھ سے بات نہ کی، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبر سے نیچے آئے تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہنے لگے:

آپ کو اس جمعہ سے کچھ حاصل نہیں ہوا سوائے اس کے جو آپ نے لکھا کیا ہے، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ سے فارغ ہو چکے تو میں نے آکر انہیں یہ سب کچھ بتایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لگے:

"ابی بن کعب نے سچ کہا ہے، جب تم اپنے امام کو خطبہ دیتے ہو تو اس کے خطبہ سے فارغ ہونے تک خاموشی اختیار کرو"

سنن ابن ماجہ حدیث نمبر (1111) مسند احمد حدیث نمبر (20780) یوصیری اور علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تمام المیزہ صفحہ نمبر (338) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

یہ حدیث جمعہ کے روز امام کے خطبہ کے دوران خاموش رہنے، اور کلام کرنے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے ز

ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

ہر علاقے کے فقہاء میں خطبہ سننے والے کے لیے دوران خطبہ خاموش رہنے کے وجوب میں کوئی اختلاف نہیں۔

دیکھیں: الاستاذ کار (43/5)۔

بعض نے شذوذ اختیار کرتے ہوئے وجوب کی مخالفت کی ہے، اور ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔

خطبہ میں خاموش رہنے کے حکم کے متعلق ابن رشد رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے:

"اور جو اسے واجب قرار نہیں دیتا، میرے علم میں تو ان کا کوئی شبہ نہیں، صرف اتنا ہے کہ ان کے خیال میں مندرجہ ذیل فرمان باری تعالیٰ میں دلیل خطاب معارض ہو:

اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو تم اسے سنو اور خاموش رہو۔

یعنی قرآن کے علاوہ کسی میں خاموش رہنا واجب نہیں، اور اس قول میں ضعف ہے، واللہ اعلم۔

اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی۔

دیکھیں: ہدایہ المیتہ (389/1)۔

ضرورت یا مصلحت کی خاطر اس سے نمازیوں کا امام کے ساتھ اور امام کا نمازیوں کے ساتھ کلام کرنا مستثنیٰ ہے۔

انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

"نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ قسط سالی کا شکار ہو گئے، ایک روز جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا: اے اللہ تعالیٰ



کے رسول مال و جانور ہلاک ہو رہے ہیں، اوبچے بھوکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعاء فرمائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے اس دن بارش ہوئی اور اس کے دوسرے اور تیسرے دن اور چوتھے دن حتیٰ کہ لگے۔ جمعہ تک بارش ہوتی رہی، اور وہی یا کوئی اور اعرابی کھڑا ہو کر کہنے لگا: اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر منہدم ہو رہے ہیں، اور مال غرق ہونے لگا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعاء فرمائیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند فرمائے

صحیح بخاری حدیث نمبر (891) صحیح مسلم حدیث نمبر (897)۔

جاہلین عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ:

"نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور بیٹھ گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے فلاں کیا تم نے نماز (تھیہ المسجد) ادا کی ہے؟ تو اس نے نفی میں جواب دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اٹھ کر دو رکعت ادا کرو"

صحیح بخاری حدیث نمبر (888) صحیح مسلم حدیث نمبر (875)۔

اس طرح کی احادیث سے جس نے نمازوں کا آپس میں کلام کرنے اور خاموش نہ رہنے پر استدلال یا ہے اس کا استدلال صحیح نہیں۔

ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

"اور انہوں نے جو اس سے حجت پکڑی ہے: احتمال ہے کہ یہ امام کے ساتھ کلام کرنے والے کے ساتھ خاص ہو، یا پھر جس سے امام کلام کرے؛ کیونکہ اس سے خطبہ سننے میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا: "کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟" تو اس شخص نے جواب دیا۔ اور دوران خطبہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ تو سب احادیث میں جمع اور موافقت کرتے ہوئے اس پر محمول متعین ہوا، اور کسی غیر کا اس پر قیاس صحیح نہیں، کیونکہ امام کی دوران خطبہ کلام نہیں ہوتی، کسی دوسرے کے خلاف"۔

دیکھیں: المغنی (85/2)۔

اور رہا مسئلہ چھینک والے اور سلام کا دوران خطبہ جواب دینا، تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے:

امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ "سنن ترمذی" البوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث: "جب تو نے اپنے ساتھ کوئی خاموش ہونے کا کہا....."

ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں:

چھینک اور سلام کا جواب دینے میں اختلاف کیا ہے، بعض اہل علم نے خطیب کے دوران خطبہ چھینک والے اور سلام کا جواب دینے کی رخصت دی ہے، امام احمد، اسحاق رحمہما اللہ قول یہی ہے۔ اور تابعین وغیرہ میں بعض اہل علم نے اسے ناپسند کیا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا قول یہی ہے۔

مستقل فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ جات میں ہے:

"علماء کرام کے صحیح قول کے مطابق دوران خطبہ چھینکنے والے اور سلام کا جواب دینا جائز نہیں، ان دونوں سے کلام ہوتی ہے، اور حدیث کے عموم کے مطابق دوران خطبہ کلام ممنوع ہے"۔



دیکھیں: فتاویٰ الالبیۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء (242/8)۔

اور ایک دوسرے فتویٰ میں ہے :

"جمعہ کے روز دوران خطبہ آنے والا شخص جب خطبہ سن رہا ہو تو اس کے لیے سلام کی ابتدا کرنی جائز نہیں، اور دوران خطبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے افراد کے لیے بھی سلام کا جواب دینا جائز نہیں"۔

دیکھیں: فتاویٰ الالبیۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء (243/8)۔

اور ایک دوسرے فتویٰ میں ہے :

جب خطیب جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو تو دوران خطبہ کلام کرنا جائز نہیں، لیکن کسی سبب کی بنا پر اگر کسی شخص سے خطیب مخاطب ہو تو وہ کلام کر سکتا ہے"۔

دیکھیں: فتاویٰ الالبیۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء (244/8)۔

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

"دوران خطبہ سلام کرنا حرام ہے، اس لیے دوران خطبہ مسجد میں آنے والے شخص کے لیے سلام کرنا جائز نہیں ہے، اور سلام کا جواب دینا بھی حرام ہے"۔

دیکھیں: فتاویٰ ابن عثیمین (100/16)۔

اور شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

"اگر کوئی قائل یہ کہے: "خاموش رہو" یہ لغوی طور پر تو لغو اور فضول شمار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں شامل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لغو اور ناجائز قرار دیا، یہ اہم کی ترجیح کے لیے ہے، وہ یہ کہ خطبہ کے لیے خاموشی اختیار کی جائے یہ دوران خطبہ امر بالمعروف سے زیادہ اہم ہے۔ اور اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر جو چیز بھی امر بالمعروف کے مرتبہ میں ہو اس کا حکم بھی امر بالمعروف والا ہی ہوگا، اور اگر وہ چیز مرتبہ میں اس سے کم ہو تو وہ کیسے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بالاولیٰ اور زیادہ ممانعت کے لائق ہوگی اور شرعاً یہ لغو اور فضول ہے۔

دیکھیں: الاجوبۃ النافیۃ صفحہ (45)۔

خلاصہ یہ ہوا کہ :

خطبہ جمعہ میں حاضر ہونے والے شخص پر امام کا خطبہ سننا اور خاموش رہنا واجب ہے، اس کے لیے دوران خطبہ کلام کرنا جائز نہیں، لیکن جو شرعی دلیل میں خطیب کے ساتھ کلام کرنا استثنا ہے یا امام کی کلام کا جواب دینا، یا جس کی ضرورت پیش آجائے، مثلاً کسی اندھے کو گرنے سے بچانا وغیرہ۔

سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا بھی اسی ممانعت میں شامل ہے، کیونکہ امام کے ساتھ بھی اس کلام کی اجازت ہے جس میں کوئی مصلحت یا ضرورت ہو، اور سلام کرنا اور اس کا جواب دینا اس میں شامل نہیں۔

